

Bmj vtg Ber` vZ (ce©1)
(evsj v)

العبادة في الإسلام

[اللغة البنغالية]

‡j LK : Kvgvj Dvii b ‡gvj v-
تأليف : كمال الدين ملا

moxuv` bv : bgvb web Avej evkvi
مراجعة : نعمان بن أبو البشر

Bmj vg cPvi ejtiv, ivel qvn, vi qv`
المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة الرياض

1429 - 2008

islamhouse.com

Ryb-Bbmvb mijoi Zvrch[©]

Avj vtg ZvAvj v emZj ev nbi _R wel q t_k cwe[†] | Avj vtg ej b-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْيَهُمَا إِلَّا بِالْحُقْقِ ﴿الحجر: ٨٥﴾

Awg bt_fvgUj Ges fgUj Ges GZ` fqi ga_eZx^{©hv} AvtQ Zv Zvrch^{©hb} mijio Kwi^{hb} |¹

Avj vtg ej b-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْيَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظُنُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿ص: ٢٧﴾

Awg Awmgjb-Rrgb I GZ` fqi ga_eZx^{©Kvb} KQz Ah_v mijio Kwi^{hb} | GUv Ktldit` i avi Yv | AZGe Ktldit` i Rb[”] i tqtQ ` fvw A_v[®] Rvnwb[”] |²

GRB[”] Avj vtg ZvAvj v úo Kti^{tQb} th, wZnb Ryb-Bbmvb^{tK} nbi _R mijio Kti^{tQb} | Avj vtg ej b-

أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَّاتٍ وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿المؤمنون: ١١٥﴾

ØtZvgiv wK avi Yv Ki th, Awg tZvgit` i tK Ab_ R mijio Kti^{tQb} Ges tZvgiv Avgvi Kv^{tQ} wd^ti Avmte b^{v?}³

eis Avj vtg ZvAvj v Zt` i mijio Kti^{tQb} gnr j tP[”] | weiuU Zvrcth[®] Df^t tk[”] | hv cAvgq Avj vtg ZvAvj v Zvi evY^tZ ej tQb,

وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو

الْقُوَّةِ الْمُبِينِ ﴿الذاريات: ٥٨-٥٦﴾

ØAvgvi Bev` vtZi Rb[”]B Awg gvbe I Ryb RvZ mijio Kti^{tQb} | Awg Zt` i Kv^{tQ} RvkeKv PvB bv Ges GUv PvB bv th, Zvi v AvgvitK Avnvh^{©thvMvte} | Avj vtg ZvAvj vBtZv RvkeKv `vZv kw³ i Avavi ,ci vpuvS- |⁴

Avj vtg ZvAvj v ej b –

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ﴿البقرة: ٢١﴾

Øtn gvbe mgvR tZvgiv tZvgit` i ci^tb KZ[®] Bev` Z Ki | whib tZvgw M^tK Ges tZvgit` i ce@Z[®] M^tK mijio Kti^{tQb} | Zt^tZ Avkv Ki v hvq, tZvgiv ci tnRMvix AR^t Ki tZ cvi te |⁵

Bev` vtZi A_—[©]

Bev` vtZi AwfawlbK A_—[©] AbMZ nI qv, bZ nI qv, Abjni YKi v| cwi fwL K A_—[©] H mKj KvR hv Avj vtg cQ[”] Kti b I Ljk nb | Zv cKv^tk[”] Ki v tnK wKsev tMvctb, K_vq wKsev Kv^tR |

cKvk[”] K_v : thgb: Kv^tj gv D^tPvi Y Ki v, t^tvqv, whiKi, Bt^tMdvi BZ^tw[”] |

tMvcbxq K_v : AvZvi mZ^tqb I th me wel q AvZvi `KvZ c^tqvRb tm me wel tq `KvZ c^tvb Ki v thgb Avj vtg c^tZ Cgvb, td^ti kZt^t i c^tZ Cgvb, Awmgjb wKZvengt ni Dci Cgvb, ivmj M^tYi c^tZ wekjm `vcb, tkl w^t em I ZvKj x^ti i fvtj vg^t i Dci Cgvb Avbqzb Ki v |

cKvk[”] KvR : thgb: mvj vZ Kv^tqg Ki v Ges hvKvZ Av^tvq Ki v, nRj Ges wRnv^t Ki v, AZ^tPvi vtZi mnvh^t Ki v BZ^tw[”] |

tMvcbxq KvR : BLj v, gnvéYz, fvwZ, Avkv-fimv, Zvl ev Ges webq BZ^tw[”] |

Avj tKvi Avt^tb Bev` Z t

Avj tKvi Avt^tb Bev` Z `BvU At_—[©]envi ntq^tQ |

(1) mawi^tY `vmZj A_—[®] Avj vtg i vRZj | eo^tZj `vmZj thgb Avj vtg ZvAvj v ej b –

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ مريم:

ÔbtfgÜtj Ges fgÜtj Ggb tKD tbB th ` qvgq Avj wti Kv‡Q ` vm ntq Dcw-Z nte bv | Ø
G Avq‡Zi Avtj vtK m‡oRM‡Zi tbKKvi , cvcx, g‡gb, Kv‡di mKtj B Avj wti ` vm | B"Qvq tnvK ev
Awb"Qvq, Zvi v AtbK t¶‡t Avj wti ` vmZj K‡i | Z‡e Gi g‡a" tekxi fM nte g‡wi K| thgb Avj wti
etj b,—

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ يوسف: ١٠٦

ÔAtbK gwbj Avj wti c‡Z wekjm ‐ tcb K‡i , K‡S mv‡_ mv‡_ wki KI K‡i | Ø
Avj wti etj b,

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ يوسف: ١٠٣

ØZig hZB PvI bv tKb AwaKvsk gwbj B Cgjb ‐ tcbKvix bq |⁸
(2) ﴿٤٣﴾ العبودية الخاصة Z ev B"Qvaxb Bev` Z : BL‡Zvqi ev B"Qvaxb,AwbMZ Ges gnveYZ |
th Bev` Z gwbj wbtRi B"Qvq m‡úv` b K‡i | Avj wti ZvAvj v etj b,
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُحُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا حَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٤٣﴾ الفرقان:

Øi vng‡bi ev` v Zvi vB hviv c‡_extZ bg‡vte Pj vtdiv K‡i Ges Zv‡ i mv‡_ hLb gt‡Pv K_v ej tZ
_vtK, ZLb Zvi v etj Ømvj vgØ | Ø
Avj wti ZvAvj v etj bÑ

فَبَشِّرْ عِبَادُ الَّذِينَ يَسْتَعِمُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَةً ﴿١٨-١٧﴾ الزمر: ١٨-١٧

ØAZGe m‡sev` w b Avgvi ev` vt` i tK hviv g‡bwb‡ek mnKv‡i K_v i‡b, AZ:ci hv D‡Eg Zvi
Ab‡mi Y K‡i | Ø¹⁰
G c‡Kvii e‡` M‡Z g‡gbMY A‡FP | tKvb Kw‡di Gi g‡a" A‡FP bq |

mvavi Y Bev` Z Ges vt‡kl Bev` tZi g‡a" i "Zc‡Y‡cv_R" wbg‡fc:

(1) mvavi Y Bev` Z (Bev` tZ Avgv‡n) Gi g‡S mKj m‡oRMZ A‡FP³ | Avi vt‡kl Bev` Z
(Bev` tZ Lv"Qvn) Gi g‡a" i agv‡ Cgjb` vi MY A‡FP³ nte | AZGe g‡gbiv Kw‡di t` i mv‡_ mvavi Y
et‡` M‡ZI A‡FP³ | Bev` tZ Lv"Qvn Gi g‡S g‡gbiv Kw‡di t‡K c‡_K |

(2) mvavi Y Bev` tZ mK‡j B A‡FP³ | tKDB Zvi ewnti bq | Avi Bev` tZ Lv"Qvn B"Qvaxb,
-vaxb |

(3) wKqytZ kw‡-Ges cj‡vi nte Bev` tZ Lv"Qvn Dci | Kv‡Y Bev` tZi g‡a" GuvB nt"Q
D‡t K‡ | G Rb" Avgiv t‡L mvavi Y Bev` Z (Dej` q‡tZ Avgv‡n) KvD‡K Cg‡bi g‡a" c‡ek Kv‡Z
cv‡i bv | Avevi KvD‡K K‡di t‡Kl ewni K‡tZ cv‡i bv |

Bev` tZi w‡E nt"Q AvbMZ :

A_vP Bev` tZi g‡a" Awmj nt"Q AvbMZ | Gi g‡b nt"Q Avj wti wKZv‡ Ges Zvi ivm‡j i m‡b‡Z
th wLq c‡wYZ bq Zv Bev` Z wnm‡te g‡b Kv‡ tKvb g‡L‡K‡i Rb" %a bq | c‡wY: bex (mv:) etj b:

٢٤٩٩ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. (صحيح البخاري: Øth e‡W³ tKvb KvR Kij A_P H Kv‡R Avgvi
tKvb Ab‡gv` b tbB, Zv c‡ZvL‡Z | Ø¹¹

Ab" eYDvq G‡m‡Q bex Kv‡xg mv. etj b: th e‡W³ Avgvi kixq‡Z tKvb bZb Aw‡v‡i Kij , hv
kixqZ mg_ K‡i bv, Zv c‡ZvL‡Z |

GRb" Avgiv t‡L‡Z cvB GK ` j mv‡v‡t` i KvR‡K ivm‡j mv. c‡ZvL‡b K‡t‡Qb | hviv ivm‡j mv.
Gi Bev` Z m‡u‡K‡R‡Am Kivi ci wbtR‡` i Bev` Z‡K L‡B Kg g‡b Kij | Avi ej j , hv‡ ci
mKj , bvn g‡d wZ‡b G‡Zv Bev` Z K‡i b? GKRb etj DVj , Awg AvR‡eb c‡iv ivZ bv‡vR coe|
Aci Rb ej j , Awg mviv eQi t‡vRv cv‡i b Kie, KL‡bv t‡vRv Qvoe bv| Ab"Rb ej j , Awg weevn

Ki ṭev bv| wPi Kgyi _vKe| AZ:ci bexRx Avmtj b Ges ej tj b, tZgiv G ai†Yi K_v ej wQtj ? Avj wai kc_! Awg tZgvt` i tP tq A‡bK †ekx Avj wai K fq Kwi | A_P tivRv iwL, tivRv Z_wM Kwi , bvgvR Av` vq Kwi , wb_ hvB, weevn Kwi | (GmeB Avgvi Av` k AZGe th Avgvi Av` †k wewi Z Kti tm Avgvi D‡‡Zi gta MY bq|

G‡Z Avgiv e‡‡Z cwi th, Zviv KZeo wec‡ i gta Av‡Q, hvi v H mKj Bev` †Z RwoZ hv bex mv. Kti b bvB| hZ¶Y bv Zviv wb‡R‡ i Ae vi cwi eZ‡ Kti Ges bex mv. Gi Abjmi Y Kti | hw_ l Zviv g‡b Kti _v‡K Zv‡ i Bev` Z Avgvi Kv‡Q M‡YthwM nte| gj Z: Avgvi Kv‡Q G ai†Yi Bev` †Zi tKvb gj tbB| eis bex mv. Gi kixq‡Zi wei xvPvi Y Kivi Kv‡Y GUv Zv‡ i Rb_ kw_ + KvY nte| e‡CK A‡_ Bev` Z

gvbe mw_ i Zvrch®ntQ, Avgvi Bev` Z Kiv| Avgvi fwiZ AR@ Kiv| GUv wK bq ciP I qv³ mvj vZ Av` vq, eQti i wb_ @ w_ tb tivRv cvj b, Rvb-gv j cwe† Kivi Rb_ m‡ut i mgvib RvKvZ c‡v b, mvi v Rxetb GKevi nRj cvj tbi gta Bev` Z‡K mxgve x| G, tj v Aek B eo Bev` †Zi gta MY| wKS G K_v mZ, D‡j wZ Bev` Z, tj v cvj tb GKRb gib‡l i Rxetbi L‡ Kg mgqB e‡q nq| tKvb tevakw³ m‡ubegvbj wK GUv tg‡b wb‡? th, tm Zvi Rxetbi tekxi fwM mgq Avgvi Bev` Z QrovB AwZewmZ Ki †e ? A_P tm Rv‡b th, Avgvi Zv‡K Bev` †Zi Rb_ B mw_ Kti †Qb|

A‡bK gwbj Ggb Av‡Qb hvi v Bev` Z‡K Bmj vtgi Avb‡wbK K‡Zcq KvR g‡b Kti, i agv† Avgvi mw‡_ ev_ vi m‡utKp w_ l q etj avi Y Kti, Rxetbi mKj t¶‡† Gi c‡qRbxqZ‡K A_ †Kvi Kti | Ggb ` vex hvi v tcvl b Kti b Ki Avbj Kvixg Zv‡ i G ` wofswM‡K ewiZj ` vex etj c‡vLvb Kti †Q| Avgvi ZvAvj v etj b,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَ لَكُلُّ شَيْءٍ ﴿النحل: ٨٩﴾

Awg Avgbvi c‡Z M‡bvwRj Kti wQ, thwU Ggb th, Zv‡Z c‡Z K e_ i my_ uó eYv i †qtQ|¹²

Gwibfvt e Avgvi bexi Rb_ th w_ K‡b‡ Rbv Avgvi ZvAvj v w_ †qtQb, Zv‡Z Bev` †Z e‡CKZv‡K Avgvi ZvAvj v cwi ®vi Kti w_ †qtQb| Avgvi ZvAvj v etj b,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَسُكُونِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِهِ رَبُّ الْعَالَمَيْنَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

﴿١٦٣﴾ الأَنْعَام

Awciwb ej jb, Avgvi mw_ vZ, Avgvi Ki evbx Ges Avgvi Rxeb | Avgvi gi Y RMrmg‡ni c‡Zcuj K Avgvi B Rb_ | Zvi tKvb kixK, Awg Gi Rb_ Aw_ ó ntqjQ, Avi AvZangc‡Kv‡ i gta Awg nj vg c‡g|¹³

Bmj vtgi Bvgg I w_ l vB Mb htM htM Bmj vgx kixq‡Z th w_ K wb‡` Rbv w_ †qtQb Zv‡ZI c‡vY nq th Bev` Z mxgZ M‡Ui tKvb w_ l q A_ev Avb‡wbK e_ †bq| c‡vZ mnvix AveyRi Avgvi w_ l vix iv. GK c‡k‡ D‡t i etj b, i vmj mKj w_ l q Avgv‡ i tK w_ l v Kti †Qb| Gb‡K AvKv‡K Doš-cvLxi ` w_ l vBwv w_ Kfv‡e bovPov Kti Zvi , p i nm w_ K, Zvi Avgv‡ i w_ l v w_ †qtQb|

Rxetbi ev‡K ev‡K c‡qRbxq mKj w_ l q I j vgtq tKvg Bmj vgx kixq‡Zi w_ K wb‡` Rbv w_ †ql c‡vY Kti †Qb th Bev` Z mxgZ M‡Ui gta A_ev Avb‡wbK e_ †bq|

Bev` †Zi e‡CKZv Ges Rxetbi mKj t¶‡† Gi w_ l Z Bmj ig m‡utK© mnavi Y Ávbx e‡w³ | Zv Rv‡bb| Gb‡K G m‡utK©Agmj g tj vKI mv¶tx w_ †qtQ| R‡bK e‡w³ mw_ gvb dvi mx iv. tK ej tj b, tZvgv‡ i tK tZvgv‡ i bex me w_ l q Ávb w_ †qtQb| Gb‡K w_ Kfv‡e tckve, cvqLvbv Kiti Zvi | mw_ gvb iv. Reve w_ tj b, n_ v, bex mv. Avgv‡ i wb‡la Kti †Qb.tKej vglx ntq tckveN cvqLvbv Kiti Z, w_ ZbU ntZ Kg w_ j v e‡envi Kiti Z, w_ b nvZ w_ †q B‡` Áv Kiti Z, nm‡ A_ev i Kbv tMvei w_ †q B‡` Áv Kiti Z|¹⁴

Bev` †Zi tgšwj K wfwEmgm:

Bev` †Zi w_ ZbU i "Kb ev wfwE Av‡Q| hv Qrov Bev` Z w_ K nq bv|

(1) cY% Avgvi gneYZ:

Avj **وَيَ** ḡneYZ n‡Q Bmj **وَيَ** atg® gj **وَيَ** E | th **وَيَ** Ei Dci Bmj **وَيَ** atg® Bev` Z c‡ZnôZ nq Zv n‡j **وَيَ** Avj **وَيَ** ḡneYZ | cvLxi m‡_ Zvi gv_v th m¤úK® Bev` ‡Zi m‡_ Avj **وَيَ** ḡneYZi tm iKgb m¤úK® AZGe th cvLxi gv_v tbB tmB cvLxi cÖY tbB | th Bev` ‡Z Avj **وَيَ** ḡneYZ tbB tmB Bev` ‡Zi Aw-Zj tbB |

ḡneYZ Øiv **وَيَ** AwZx‡ i **وَيَ** ḡneYZ, `vk®K‡ i Kví **وَيَ** K **وَيَ** ḡneYZ A_ev mdx‡ i ḡneYZi `vex D‡l k‡ bqj eis th ḡneYZ **وَيَ** ebqxs Ges Avj **وَيَ** gnZi I Zvi AvbMZ cÖKk cvq Zv nj mWZ Kvi ḡneYZ | ev` v Zvi ‡cÖy®ú‡ i Rb^o DrmM©n‡Z m`v cÖZ **وَيَ** Ktē | hv Avj **وَيَ** cQ` Zv Zvi I cQ` | hv Avj **وَيَ** Ac0` Zv Zvi I Ac0` | Avj **وَيَ** Avt kmgn tm ev` evqb Kti Ges **وَيَ** l a, ‡j v eR® Kti | Avj **وَيَ** **وَيَ** RbtK eÜz etj gtB Kti | Avi k†“K k†“ etj gtB Kti | Avi tKvb e-’ Avj **وَيَ** mštö-Amštöi Ki Y Zv Rvbvi GKgvI c_n‡j v iVm‡j i c_ Abjmi Y Ki | GRb^o Avj **وَيَ** ZvAvj v etj ‡Qb

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَعْبِدُكُمُ اللَّهُ (ال عمران: ٣١)

Ôhv^o tZvgiv Avj **وَيَ** K fv‡j vevm Zvn‡j Avgv‡K Abjmi Y Ki | hv‡Z Avj **وَيَ** I tZvgw^o M‡K fvj ev‡mb |¹⁵

gtL fv‡j vevmvi `me, AŠfi Zxe¤ccvmv Av‡, **وَيَ** Kš^o Ki Avbj Kvix Ges nv` x‡m iVm‡j hv G‡mtQ, Zvi Abjmi Y t‡K `‡i _vK‡j **وَيَ** KqvgZ w` e‡m H fv‡j vevm Zvi ‡Kvb DcKv‡i Avm‡e bv | GU n‡e fvj evmvi bv‡g Avj **وَيَ** m‡_ **وَيَ** v Ges cÖZv Yv gvI |

Avj **وَيَ** Bebj Kvixi in. etj b, G AvqvZ H e¶¶³ i **وَيَ** ei“‡x dqmvj vKvix th `vex Kti Avj **وَيَ** ḡneYZi, A_P tm ḡnv¤` mv. Gi **وَيَ** Abjmi Y Kti bv | Zvi `vex‡Z tm **وَيَ** vev` x etj mve”-n‡e | hZ¶Y bv tm kixqtZ ḡnv¤xi Ges bex mv. Gi Abjmi Y mKj K_v I KvR bv Ki‡e | thgb **وَيَ** x nv` x‡m G‡mtQ, iVm‡j mv. etj b, th e¶¶³ Avgv‡ i kixqZ Abjgv‡Z bq Ggb KvR Kij , Zv cÖZvLvZ | Avj **وَيَ** etj b, hv^o tZvgiv Avj **وَيَ** K fv‡j vevm Zvn‡j Avgv‡K Abjmi Y Ki | hv‡Z Avj **وَيَ** I tZvgw^o M‡K fv‡j vev‡mb | A_P Gi Øiv tZvgiv hv PvI , Zvi tP‡q eoUv tZvgv‡ i AR® n‡e | Zv ntj v tZvgiv Avj **وَيَ** K bq, Avj **وَيَ** tZvgv‡ i ‡K fvj evm‡eb | nvmvb emix in. etj b, KvZcq tj vK `vex Kti Zvi v Avj **وَيَ** K fvj ev‡m | G AvqvZ Øiv Avj **وَيَ** Zv‡i cix¶v Kti ‡Qb | etj ‡Qb, hv^o Avj **وَيَ** fv‡j vevm PvI iVm‡j ‡K Abjmi Y Ki, Avj **وَيَ** tZvgv‡ i ‡K fvj evm‡eb |

(2) Avkv Ki

gwbj iVm‡j i Abjmi Y Kti Avj **وَيَ** Rb^o th me Bev` Z Ki‡e, Zv‡Z tm Avj **وَيَ** Kv‡Q mvl q‡tei Avkv Ki‡e | Avj **وَيَ** wekyj `vb I AMWYZ AbM‡n tm Avbvw` Z n‡e | G AbM® I tbqvgZmg‡ni Rb^o I tm Avj **وَيَ** i ngZ Kvgbv Ki‡e | Avj **وَيَ** etj b,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ رَحْمَةِ النَّاسِ ﴿٢١٨﴾ (البقرة)

ÔG‡Z ‡Kvb m‡_ ‡tni AeKvk tbB th, hviv Cgib G‡btQ Ges hviv **وَيَ** RvI Z Kti ‡Q, Avi Avj **وَيَ** ct_ ‡Rnv` Kti ‡Q, Zvi v Avj **وَيَ** i ng‡Zi cÖZvKx | Avi Avj **وَيَ** nt‡Qb ¶gvKvix, Ki “bvqgq |¹⁶

Avj **وَيَ** ZvAvj v etj b,

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهَ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهَ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿العنكبوت: ٥﴾

Ôth Avj **وَيَ** m¶vZ Kvgbv Kti (tm ‡R‡b ivLK) Avj **وَيَ** tmB **وَيَ** Z Kvj Aek`B Avm‡e | **وَيَ** Zv me‡K‡Zv, me‡Avbx |¹⁷

hLb ev` v ‡Kvb bvn Kti etm cvcvPvti mxgv j •NY Kti, Zv‡K Avj **وَيَ** i ngZ ntZ **وَيَ** vKx n‡e bv Ges Avj **وَيَ** ¶gv ntZ nZvK ntZ cv‡i bv | eis Zv‡K `‡ZvI ev Ki‡Z n‡e, bvn ntZ Avj **وَيَ** **وَيَ** KU gy^o i Avkvq | Avj **وَيَ** etj b-

فُلْ يا عبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿

الزمر: ٥٣﴾

لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 نَفْقَدُكُمْ بَلْ وَلَا يَعْلَمُونَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً

أَنَا عَنْدَنْ عَبْدِيِّ بْيَ فَلِيظَنْ بِي مَا شَاءَ (سُنْنَ الدَّارِمِيِّ: ٢٦١٥)

لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو الْقَاءَ رَبِّهِ فَأَيْعَمِلُ عَمَّا لَهُ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿الْكَهْفُ: ١١٠﴾

لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً

أَنْ كَانَ يَرْجُو الْقَاءَ رَبِّهِ فَأَيْعَمِلُ عَمَّا لَهُ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿الْكَهْفُ: ١١٠﴾

لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً
 لَهُجَّةِ، تَنْ أَعْرَفُكَ إِنْ يَوْمَ الْحِسَابِ لَمْ يَعْلَمْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّبْرَأً

مَغْرِب

1 مِنْ مِنْ رِي -85

2 مِنْ مِنْ تَقْرَأْنِي :27

3 مِنْ مِنْ جَنْجَبْ :115

4 مِنْ مِنْ حَمْزَى 56-58

5 مِنْ مِنْ إِنْ كَانَ 21

6 مِنْ مِنْ غَيْرِي 93

7 مِنْ مِنْ بَدْمَدْ 106

8 مِنْ مِنْ بَدْمَدْ 103

9 مِنْ مِنْ أَنْجَى كَلْبَ - 63

10 مِنْ مِنْ هَجْنِي : 17-18

¹¹ مِنْ مِنْ 2499

12 مِنْ مِنْ بَنْجَى -89

13 مِنْ مِنْ أَنْجَى أَنْجَى - 162-163

¹⁴

15 مِنْ مِنْ بَجِيلْبَ : 31

16 مِنْ مِنْ أَنْجَى إِنْ كَانَ 218

17 أَنْجَى كَلْيَزْ : 5

18 أَنْجَى هَجْنِي : 53

¹⁹ مِنْ مِنْ 2615

20 مِنْ مِنْ كَنْدَ : 110